



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة التَّغَابُنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. پاکی بولتا (تسبیح کر رہا) ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں،
اسی کاراج ہے اور اسی کو تعریف ہے۔
اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

2. وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار۔
اور اللہ جو کرتے ہو دیکھتا ہے۔

3. بنائے آسمان اور زمین تدبیر سے، اور صورت کچھنی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت،
اور اسی طرف پھر (لوٹ) جانا ہے۔

4. جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں،
اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔
اور اللہ کو معلوم ہے جیوں (دلوں) کی بات۔

5. کیا پہنچا نہیں تم کو احوال ان لوگوں کا، جو منکر ہو چکے ہیں پہلے۔

پھر چکھی سزا اپنے کام کی، اور ان کو دکھ کی مار (عذاب) ہے۔

6. یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے، کیا آدمی ہم کو راہ سو جھائیں (دکھائیں) گے؟

پھر منکر ہوئے اور منہ موڑا

اور اللہ نے بے پروائی کی۔

اور اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں سراہا۔

7. دعوے کرتے ہیں منکر کہ ہر گزان کو اٹھانا نہیں۔

تو کہو، کیوں نہیں! قسم ہے میرے رب کی! تم کو پیشک اٹھانا ہے، پھر تم کو جتنا ہے جو تم نے کیا،

اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

8. سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔

اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔

9. جس دن تم کو اکھٹا کرے گا جمع ہونے کے دن،

وہ دن ہے ہار جیت کا۔

اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا، اتارے اس سے اس کی برائیاں،

اور داخل کرے اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ندیاں، رہا کریں اس میں ہمیشہ۔

یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

10. اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری آیتیں، وہ ہیں دوزخ والے، رہا کریں اس میں۔

اور بری جگہ پہنچے۔

11. نہیں پڑتی کوئی تکلیف بن حکم اللہ کے،

اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر، راہ بتادے اس کے دل کو۔

اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔

اور حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا۔

پھر اگر تم منہ موڑو تو ہمارے رسول کا کام یہی ہے پہنچا دینا کھول کر۔

اللہ! اس بن کسی کی بندگی نہیں۔

اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔

اے ایمان والو! بعضی تمہاری جو روئیں (بیویاں) اور اولاد دشمن ہیں تمہارے، سوان سے بچتے رہو۔

اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

تمہارے مال اور اولاد یہی ہیں جانچنے کو۔

اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے نیک (اجر) بڑا۔

سو ڈرو اللہ سے جہاں تک (ڈر) سکو۔ اور سنو اور مانو، اور خرچ کرو اپنے بھلے کو۔

اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے، سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے۔

اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا، وہ دونوں کر دے گا تم کو، اور تم کو بخشے۔

اور اللہ قدر دان ہے تحمل والا۔

جاننے والا چھپے اور کھلے کا، زبردست حکمت والا۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com